










# LILLTRÄSK





Design and Quality  
IKEA of Sweden






i




i





**1**



**ENGLISH**

It is important to saw the worktop straight.  
If uncertain contact your local specialized dealer.

**DEUTSCH**

Es ist wichtig, die Arbeitsplatte gerade abzusägen. Bei Fragen den örtlichen Fachhandel hinzuziehen.

**FRANÇAIS**

Il est important d'effectuer une découpe parfaitemt droite du plan de travail.  
En cas de doute, faites appel à un professionnel.

**NEDERLANDS**

Het is belangrijk om het werkblad recht af te zagen.  
Neem bij twijfel contact op met de vakhandel.

**DANSK**

Det er vigtigt at save bordpladen lige.  
Hvis du er i tvivl, skal du kontakte et bygemarked.

**ÍSLENSKA**

það er mikilvægt að saga borðplötuna beint. Hafðu samband við fagaðila ef þú ert óviss.

**NORSK**

Det er viktig at benkeplaten sages rett. Er du usikker, ta kontakt med fagfolk.

**SUOMI**

On tärkeää sahata työtaso suoraan. Jos olet epävarma, pyydä apua ammattilaiselta.

**SVENSKA**

Det är viktigt att såga bänkskivan rakt.  
Är du osäker kontakta din lokala fackhandel.

**ČESKY**

Pracovní desku je potřeba řezat rovně.  
Pokud si nejste jisti, kontaktujte nejbližší obchodní dům.

**ESPAÑOL**

Es importante cortar la encimera recta.  
En caso de duda, ponte en contacto con un especialista local.

**ITALIANO**

È importante tagliare il piano di lavoro in linea retta.  
Se hai dubbi, contatta un esperto locale.

**MAGYAR**

Fontos, hogy a munkalapot egyenesen fűrészeld. Szükség esetén kérd szakember segítségét.

**POLSKI**

Należy równo dociąć blat.  
W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą.

**LIETUVIŲ KLB.**

Svarbu tiesiai nupjauti darbastalį.  
Jei abejojate, kreipkitės į specializuotą pardavėją.

**PORUGUÊS**

É importante cortar a bancada recta.  
Em caso de dúvida, contacte um especialista local.

**ROMÂNĂ**

Este important să tai blatul drept.  
Dacă ai nelămuriri, contactează dealerul local specializat.

**SLOVENSKY**

Je dôležité rovnou rozrezať pracovnú dosku.  
Ak je to nevyhnutné, kontaktujte vášho miestneho špecializovaného dodávateľa.

**БЪЛГАРСКИ**

Важно е да отрежете работния плот точно.  
Ако не се чувствате сигурни, свържете се с местен специализиран магазин.

**HRVATSKI**

Važno je radnu ploču ispiliti ravno.  
Ako niste sigurni kontaktirajte lokalnu specijaliziranu prodavaonicu.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Είναι σημαντικό να πριονίζετε την επάνω επιφάνεια εργασίας σε ευθεία γραμμή. Εάν δεν είστε σίγουρος, επικοινωνήστε με το ειδικό κατάστημα της περιοχής σας.

**РУССКИЙ**

Необходимо пилить столешницу прямо.  
В случае каких-либо сомнений обратитесь к специалистам.

**SRPSKI**

Veoma je bitno da radnu ploču isečete ravno. Ukoliko niste sigurni obratite se lokalnom dobavljaču.

**SLOVENŠČINA**

Pomembno je, da delovno ploščo odžagate ravno.  
Če ste v dvomih, se obrnite na lokalnega specializiranega trgovca.

**TÜRKÇE**

Tezgahın düz bir şekilde kesilmesi önemlidir. Tereddüt ettiğiniz bir konu olursa yerel bayınız ile temasla geçiniz.

**中文**

台面应该沿直线锯切。  
如不确定， 请联系当地专业经销商。

**繁中**

請注意·檯面需平直的鋸開。  
若有任何問題·請洽專業人員。

**한국어**

조리대를 똑바르게 자르는 것이 중요합니다.  
의문사항이 있으면 전문가에게 문의하세요.

**日本語**

ワークトップは必ずまっすぐにカットしてください。  
ご不明な点は、 お近くの専門店にご相談ください。

**BAHASA INDONESIA**

Sangatlah penting menggergaji  
permukaan muka kerja dengan lurus. Bila  
ragu, hubungi dealer spesialis setempat  
anda.

**BAHASA MALAYSIA**

Adalah penting untuk mengerjai bahagian atas meja kerja dengan lurus. Jika tidak pasti, hubungi pembekal khusus di kawasan anda.


**عربى**

من المهم نشر سطح المكتب بشكل مستقيم.  
في حالة عدم التأكيد برجى الاتصال بمعرض أيها.

**ไทย**

จำเป็นจะต้องเลื่อยหน้าที่อปให้ตรง  
หากไม่มั่นใจ กรุณารีบยกไข่บริการช่างผู้ชำนาญ

**2**



## **ENGLISH**

If the worktop has to be cut, use contact adhesive to fix the edgeband to the cut end. Please note that contact adhesive is not included.

## **DEUTSCH**

Falls es notwendig ist, die Arbeitsplatte abzusägen, muss auf der abgesägten Oberfläche Umleimer angebracht werden. Der hierfür erforderliche Leim ist nicht beige packt.

## **FRANÇAIS**

Si vous avez besoin de découper le plan de travail, utiliser de la colle pour fixer le chant sur le bord scié. NB : la colle n'est pas fournie.

## **NEDERLANDS**

Wanneer je wat van het werkblad moet afzagen, gebruik dan contactlijm om de afplakstrook op het afgezaagde uiteinde vast te plakken. N.B. De contactlijm zit niet inbegrepen.

## **DANSK**

Hvis du har behov for at forkorte bordpladen, skal du bruge kontaktlim til at lime kantlisten på den afsavede ende. Bemærk, at kontaktlim ikke medfølger.

## **ÍSLENSKA**

Notið lím til að festa kantborðann á sagaða endanum ef saga þarf borðplötuna niður. Vinsamlegast athugið að límið fylgir ekki.

## **NORSK**

Trenger du å sage av benkeplaten - bruk kontaktlim til å feste kantebåndet på den avkappede enden. Kontaktlim følger ikke med.

## **SUOMI**

Jos pöytälevyä on lyhennettävä-käytä liima maa kiinnittääksesi reunanauha sahattuun päähän. Liima ei mukana.

## **SVENSKA**

Om du behöver såga av bänkskivan - använd kontaktlim att fästa kantbandet med på den avsågade änden. Observera att kontaktlim ej medföljer.

## **ČESKY**

V případě, kdy je nutné pracovní desku zkrátit, k upevnění okrajové pásky použijte lepidlo. Lepidlo není součástí balení.

## **ESPAÑOL**

Si tienes que cortar la encimera, utiliza cola de contacto para pegar la tira de cantear en el borde cortado. Nota: La cola de contacto no se incluye.

## **ITALIANO**

Se devi tagliare il piano di lavoro, usa una colla per contatto per fissare il profilo al bordo tagliato. N.B. La colla per contatto non è inclusa.

## **MAGYAR**

Ha a munkalapot méretre vágva használod, a levágott szél élfóliázásához használj ragasztót.  
Ne feledd, ezt a ragasztót a csomag nem tartalmazza.

## **POLSKI**

Jeśli blat trzeba przyciąć, wykorzystaj taśmę klejącą, aby przymocować taśmę krawędziową do obciętego końca. Uwaga, taśma klejąca nie została załączona.

## **LIETUVIŲ KLB.**

Jei darbastai reikia nupjauti, apdailos juostą prie nupjauto krašto klijukotek kontaktiniai klijais. Atnkreipkite dėmesį, kad kontaktiniai klijai nepridedami.

## **PORTUGUÊS**

Se tiver que cortar a bancada, utilize cola de contacto para pegar a ripa na borda cortada. Repare que não se inclui a cola de contacto.

## **ROMÂNA**

Dacă blatul trebuie tăiat, folosește adeziv de contact pentru a acoperi cantul tăiat. Adezivul de contact nu este inclus.

## **SLOVENSKÝ**

Ak musíte časť kuhynskej dosky odrezáť, na prilepenie okrajovej pásky použite kontaktné lepidlo. Kontaktné lepidlo nie je priložené k výrobku.

## **БЪЛГАРСКИ**

Ако кухненският плот трябва да бъде отрязан, използвайте контактно лепило, за да закрепите канта към отрязания ръб. Обърнете внимание, че контактно лепило не е осигурено.

## **HRVATSKI**

Ako je potrebno skratiti radnu ploču, koristite kontaktno ljepilo za pričvršćivanje rubne trake na izrezani dio. Kontaktno ljepilo se zasebno kupuje.

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Εάν ο πάγκος πρόκειται να κοπεί, για την τοποθέτηση της ταινίας στο χειλός, χρησιμοποιήστε κόλλα. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι η κόλλα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

## **РУССКИЙ**

В случае, если потребуется отпилить часть столешницы, к спленному краю следует прикрепить окантовку с помощью контактного клея. Обратите внимание - контактный клей не прилагается.

## **SRPSKI**

Ako treba da sečete radnu površinu, upotrebite samolepivu izolacionu traku na isečenu ivicu. Imajte u vidu da samolepiva izolaciona traka nije data.

## **SLOVENŠČINA**

Če morate skrajšati kuhinjsko ploščo, uporabite kontaktno lepilo, da pritrjdite robni trak na odrezan konec. Kontaktno lepilo ni priloženo.

## **TÜRKÇE**

Tezgahın kesilmesi gerekiyorsa, kenar bandını kesik kenara monte etmek için bağlantı tutkalı kullanın. Bağlantı tutkalı dahil değildir.

## **中文**

裁割厨台板时，用粘胶将边带粘在切割面上。注意，该产品不含粘胶。

## **繁中**

裁切流理台時，請使用接觸式膠黏劑。黏著修飾邊條和裁切邊。提醒您膠黏劑未附在產品內。

## **한국어**

조리대를 절단할 경우, 절단면에 애지스트립을 부착하면서 접착제가 필요합니다. 별도 판매.

## **日本語**

カウンタートップを切断する必要がある場合には、コンタクト接着剤（ゴム系接着剤）を使用して切断面にエッジ板を貼り付けます。コンタクト接着剤は添付されていません。

## **BAHASA INDONESIA**

Jika muka kerja harus dipotong, gunakan perekat untuk melekatkan jalur tepi ke bagian tepi yang dipotong. Harap dicatat bahwa perekat tidak disertakan.

## **BAHASA MALAYSIA**

Jika bahagian atas kaunter perlu dipotong, gunakan pelekat untuk melekatkan jalur tepi ke bahagian tepi yang dipotong. Ambil perhatian bahawa pelekat tidak disertakan.




## **عربى**

السطح يجب أن يقطع، استعمل غراء للстыبي إلى نهاية القطع. رجاء لاحظ أن اللاصق غير متضمن.


## **ไทย**

สำหรับเป็นต้องตัดหน้าท่อไปเคาน์เตอร์ ต้องปิดขอบรอบตัดให้เรียบร้อย โดยใช้แผ่นปิดขอบที่ใหม่มาด้วย (กาวและจำหน่าย)


# 3





**4**






**5**







**6**




**7**




**8**









**6**






**7**






**8**




**9**



**10**



**11**



**ENGLISH**

Apply silicone in order to prevent liquids from penetratating into the worktop.  
NOTE! Silicone is not included!

**DEUTSCH**

Silikon auftragen, um die Arbeitsplatte vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.  
Bitte beachten: Silikon ist nicht beige-packt.

**FRANÇAIS**

Appliquer de la silicone afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans le plan de travail.

ATTENTION ! La silicone n'est pas fournie !

**NEDERLANDS**

Breng siliconen aan om te voorkomen dat er vocht in het werkblad dringt.  
N.B. Siliconen worden niet meegeleverd.

**DANSK**

Påfør silikone for at forhindre væske i at trænge ind i bordpladen.  
BEMÆRK! Silikone medfølger ikke!

**ÍSLENSKA**

Berið sílikon á til að koma í veg fyrir að vökví leki á borðplötuna.  
ATHUGIÐ! Sílikon fylgir ekki!

**NORSK**

Bruk silikon for å hindre at væske trenger inn i benkeplaten.  
MERK! Silikon er ikke inkludert!

**SUOMI**

Tiivistä saumakohdat silikonilla estääksesi nesteiden imeytymisen työtasoona.  
HUOM! Silikoni myydään erikseen!

**SVENSKA**

Applicera silikon för att förhindra att vätska tränger in i bänkskivan.  
Obs! Silikon medföljer ej!

**ČESKY**

Abyste zabránili pronikání vlhkosti do pracovní desky, aplikujte silikon.  
UPOZORNĚNÍ! Silikon není součástí balení!

**ESPAÑOL**

Aplica silicona para evitar que penetren líquidos en la encimera.  
¡ATENCIÓN! La silicona no se incluye.

**ITALIANO**

Applica il silicone per evitare che i liquidi penetrino nel piano di lavoro.  
N.B. Il silicone deve essere acquistato a parte.

**MAGYAR**

Használj szilikont, hogy megelőzd a folyadék beszivárgását a munkalapba.  
FIGYELEM! A csomag a szilikont nem tartalmazza!

**POLSKI**

Zabezpiecz blat silikonem, aby zapobiec przenikaniu wilgoci.  
UWAGA! Silikon sprzedawany oddzielnie!

**LIETUVIŲ KLB.**

Kad į vidų nepatektų vanduo ir kiti skysčiai, tepkite silikono.  
DĒMESIO! Silikonas nepridedamas!

**PORTUGUÊS**

Aplique silicone para evitar que os líquidos penetrem na bancada.  
ATENÇÃO! Silicone não incluído!

**ROMÂNA**

Aplicați silicon pentru a preveni infiltrăriile de lichide în blatul de lucru.  
NOTĂ! Siliconul nu este inclus.

**SLOVENSKY**

Aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti do pracovnej dosky, aplikujte silíkon. UPOZORNENIE! Silíkon nie je súčasťou balenia!

**БЪЛГАРСКИ**

Използвайте силикон, за да предотвратите проникването на течности в плата.  
ВАЖНО! Силиконът се закупува отделно!

**HRVATSKI**

Nanесите силикон како би спречели прорив течности у радна плошћи.  
НАПОМЕНА! Silikon nije uključen!

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Εφαρμόστε τη σιλικόνη για να αποφύγετε τη διείσδυση των υγρών ουσιών μέσα στον πάγκο εργασίας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν περιλαμβάνεται η σιλικόνη!

**РУССКИЙ**

Нанесите силикон, чтобы защитить столешницу от проникновения жидкостей.  
ВНИМАНИЕ! Силикон не прилагается.

**SRPSKI**

Zaptijte silikonom da sprečite prodiranje vode u radnu ploču.  
НАПОМЕНА: nije dat silikon.

**SLOVENŠČINA**

Uporabite silikon, da bi preprečili vdor tekočine na delovno ploščo.  
POZOR! Silikon ni priložen!

**TÜRKÇE**

Sıvının tezgahın içine nüfuz etmesini önlemek için silikon uygulayınız.  
NOT! Silikon ürünü dahil değildir!

**中文**

涂上硅胶， 防止液体侵入台面。  
注意！此产品不包含硅胶。

**繁中**

表面塗覆矽膠，可避免液體滲入檯面。  
注意！檯面未塗覆矽膠！

**한국어**

상판 속으로 액체가 침투하는 것을 방지하기 위해 실리콘 처리를 해주세요.  
주의! 실리콘은 별도 판매입니다!

**日本語**

水分の浸入を防ぐため、接合部分はシリコンコーティングしてください。  
注意！コーティング材は付属していません！

**BAHASA INDONESIA**

Gunakan silikon untuk mencegah air meresap ke dalam permukaan kerja Anda.  
CATATAN! Silicone tidak disertakan!

**BAHASA MALAYSIA**




Gunakan silikon untuk mengelakkan cecair daripada meresap ke dalam bahagian atas kerja.  
NOTA! Silikon tidak disertakan!

**عربي**  
ضعى السيلكون لمنع السوائل من التسرب داخل سطح العمل.  
ملحوظة! السيلكون غير متضمن!

**ไทย**

ใช้ซิลิโคนหากเพื่อกันน้ำเข้มลงบนแผ่นท่อเคาน์เตอร์หมายเหตุ! ซิลิโคนแยกจ่าหนาย

# 12



**ENGLISH**

Fit a diffusion barrier on the underside of the worktop above white goods to provide extra protection against condensation and moisture.

**DEUTSCH**

Über Elektrogeräten muss zum Schutz vor Kondenswasser/Feuchtigkeit auf der Unterseite der Arbeitsplatte eine Feuchtigkeitssperre angebracht werden.

**FRANÇAIS**

Fixer un pare-vapeur sur la partie inférieure du plan de travail au-dessus des appareils électroménagers afin d'offrir une protection supplémentaire contre la condensation et l'humidité.

**NEDERLANDS**

Boven inbouwapparatuur dient een vocht-isolerende laag aan de onderkant van het werkblad te worden bevestigd als extra bescherming tegen vocht.

**DANSK**

Monter en dampspærre over hårde hvidevarer på undersiden af bordpladen for at beskytte den mod kondensvand og fugt.

**ÍSLENSKA**

Komið rakavörn fyrir á milli heimilistækja og borðplötunnar til að tryggja vörn gegn uppgufun og raka.

**NORSK**

Monter en fuktspærre under benkeplaten og over hvitevarene for å gi ekstra beskyttelse mot kondens og fukt.

**SUOMI**

Asenna kosteussuoja kodinkoneen ja työtason alapinnan väliin lisäsuojaksi kosteudelta.

**SVENSKA**

Över vitvaror skall en fuktspärr fästas på bänkskvans undersida som extra skydd mot fukt.

**ČESKY**

Na spodní stranu pracovní desky nad spotřebič umístěte difuzní bariéru, která je účinou ochranou před kondenzací a vlhkostí.

**ESPAÑOL**

Instala una barrera antidiifusora en la parte inferior de la encimera, por encima de los electrodomésticos, a modo de protección extra contra la condensación y la humedad.

**ITALIANO**

Fissa una barriera contro l'umidità sul lato inferiore del piano di lavoro, sopra gli elettrodomestici, come protezione extra contro la condensa.

**MAGYAR**

A konyhai gépek fölött a munkalap alá szerelj nedvességgátlót, mely extra védelmet nyújt a páralecsapódás ellen.

**POLSKI**

Przymocuj barierę dyfuzyjną na spodzie blatu nad AGD aby zapewnić dodatkową ochronę przed kondensacją i wilgocią.

**LIETUVIŲ KLB.**

Pritvirtinkite apsauginį bortelį kitoje stalviršio puseje, virš buitinių prietaisų, apsaugant nuo kondensato ir drėgmės.

**PORTUGUÊS**

Instale uma barreira anti-difusora na parte inferior da bancada, por cima dos electrodomésticos, de forma a proporcionar protecção extra contra a condensação e a humidade.

**ROMÂNA**

Pentru protecție suplimentară împotriva umezelii și a condensului, monteați o barieră cu difuzie pe partea inferioară a blatului, deasupra aparatelor electrotcasnice.

**SLOVENSKY**

Na spodní časť pracovnej dosky nad biele spotrebiče namontujte difúznu bariéru, ktorá poskytne extra ochranu pred kondenzáciou pár a vlhkostou.

**БЪЛГАРСКИ**

Закрепете дифузионната преграда от долната страна на работния плот над бялата техника. Осигурява допълнителна защита срещу конденз и влага.

**HRVATSKI**

Postavite vodonepropusnu barijeru s donje strane radne ploče iznad bijele tehnike za ekstra zaštitu od vlage i nečistoće.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Τοποθετήστε το προστατευτικό διάχυσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας και επάνω από τα λευκά είδη. Παρέχει επιπλέον προστασία από την συμπύκνωση και την υγρασία.

**РУССКИЙ**

Установите диффузионный барьер на нижней стороне столешницы над бытовой техникой, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги и конденсата.

**SRPSKI**

Postavite difuzioni štitnik s donje strane radne ploče iznad bele tehnike da zaštiti od kondenzacije i vlage.

**SLOVENČINA**

Na spodnjo stran delovne plošče nad belo tehniko pritrrite izolirno folijo, ki še dodatno ščiti pred kondenzom in vlogo.

**TÜRKÇE**

Nem ve buharlaşmaya karşı ekstra koruma sağlamak için tezgahın alt kısmına, beyaz eşyaların üzerine difüzyon bariyeri yerleştirilebilir.

**中文**

将防扩散层安装在白色柜体上方的操作台面下，防止凝水和潮气。

**繁中**

家電用品上方的桌面可加覆擴散阻礙層·以避免沾染水分和溼氣。

**한국어**

가전 제품 위에 조리대를 설치하는 경우, 보호막을 조리대 아래부분에 부착하여 물과 습기를 차단해주세요.

**日本語**

ワークトップの下に電化製品を設置する場合は、ワークトップを湿気や水気から守るため、ワークトップの裏面に保護シートを取り付けてください。

**BAHASA INDONESIA**

Pasanglah penghalang difusi pada bagian bawah meja dapur atas barang putih untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap kondensasi dan kelembaban.

**BAHASA MALAYSIA**

Pasang penghalang resapan pada bahagian bawah permukaan kerja pada barang elektrik yang besar untuk memberikan perlindungan tambahan daripada lembapan dan pemeluwapan.

**عربى**

ركي حاجر نشر الضوء في الجانب السفلي من سطح العمل فوق المنسوجات لتوفير حماية إضافية ضد تكثف الماء والرطوبة.

**ไทย**

ควรใช้แผ่นกันความชื้นติดบนเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนติดดัง-แผ่นที่อยู่ไว้ด้านบน เพื่อป้องกันแผ่นที่อับเสียหายจาก-ความชื้นหรือไอน้ำ

